

82277 - سودی قرض سے بنائی جانے والی عمارتوں کے نقشہ جات تیار کرنا

سوال

میں انجینئر ہوں اور ایک دفتر میں ملازمت کرتا ہوں جہاں میرا کام بلڈنگ کا نقشہ تیار کرنا اور اس کی نگرانی ہے چاہے وہ سودی قرضہ حاصل کر کے تعمیر کی جائے یا غیر سودی، تو کیا میں میرا یہ کام سود میں شامل ہوتا ہے یا نہیں؟

کیونکہ جس ملک میں ہم رہائش پذیر ہیں وہاں بہت زیادہ سودی قرضہ دینے کی رسم چل نکلی ہے، تو کیا میرا کام سود کے زمرے میں آتا ہے کہ کیونکہ میں نقشہ تیار کر کے معاونت کرتا ہوں، اور کیا اس کے لیے سیمنٹ، ریت اور بجری اور سریا وغیرہ فروخت کرنے والے، اور اس کی تعمیر میں حصہ لینے والا عملہ سب سود میں شامل ہوتا ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلہ میں مجھے جواب ضرور دیں، کیونکہ مجھے اس مسئلہ نے بہت پریشان کر دیا ہے۔

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اگر تو آپ کا کام نقشہ جات کی تیاری اور اس کی نگرانی کرنا ہے تو یہ اس شرط پر جائز ہے کہ آپ ایسی بلڈنگ کا نقشہ تیار نہ کریں جو بلڈنگ برائی کے لیے تیار کی جا رہی ہو، مثلاً سودی بنک، اور شراب اور قمار بازی کے اڈے وغیرہ اور دوسری معصیت و نافرمانی اور فسق و فجور سینما وغیرہ کی بلڈنگ، کیونکہ ان کا نقشہ تیار کرنا معصیت و نافرمانی کے عمل میں معاونت اور فساد پیدا کرنے والی بلڈنگیں زیادہ کرنا ہوگا۔

مزید تفصیل کے لیے آپ سوال نمبر (82551) کے جواب کا مطالعہ ضرور کریں۔

لیکن مباح اور جائز بلڈنگ کا نقشہ تیار کرنا، مثلاً رہائش کے لیے گھر تو اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے اس کے مالک نے اسے سودی قرض حاصل کر کے ہی تیار کرنا ہو، کیونکہ آپ نے معصیت اور نافرمانی میں اس کی معاونت نہیں کی۔ جو کہ سودی قرض کا حصول تھا۔ بلکہ آپ نے تو ایک مباح اور جائز کام کیا اور اس سے اس کام کی اجرت اور مزدوری حاصل کی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ بعض یہودیوں کے پاس مباح کام کیا کرتے تھے، مثلاً کھیتوں کو پانی لگانا وغیرہ، اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہودی غالب طور پر سودی کاروبار کرتے ہیں، اور لوگوں کا مال ناحق طریقہ سے کھاتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے:

اور یہودیوں کے ظلم کی بنا پر ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی تھیں، کہ وہ اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور ان کے سود لینے کی بنا پر جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا ناحق مال کھانے کی بنا پر، اور ان میں سے جو کفار ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے النساء (160 - 161) .

بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہودیوں کے ساتھ خریدوفروخت کیا کرتے تھے، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کی درعہ ایک یہودی کے پاس غلہ کے بدلہ میں گروی رکھی ہوئی تھی جو آپ نے اس سے خریدا تھا.

صحیح بخاری حدیث نمبر (2916) .

اس طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مباح اور جائز بلڈنگ بنانے والے کو سیمنٹ، سریا، اور ریت اور بگری وغیرہ فروخت کرنا بھی جائز ہے، چاہے مالک سودی کاروبار بھی کرتا ہو.

ہم آپ کے حلال روزی تلاش کرنے اور اس کی حرص رکھنے پر آپ کے شکر گزار ہیں.

اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حرام سے بچا کر اپنے حلال کے ساتھ ہی کفالت سے نوازے، اور ہمیں اپنے فضل کے ساتھ دوسروں سے غنی کر دے.

واللہ اعلم .